

INDICACIONES

Las autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado se regulan principalmente en los artículos 37 y siguientes del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Las solicitudes han de ser presentadas personalmente o mediante representación en la misión diplomática u oficina consular española de su demarcación de residencia. Por lo tanto los solicitantes residentes en otros países distintos de Irán no podrán presentar sus solicitudes en la Embajada de España en Teherán.

Las solicitudes de este tipo de visados se pueden efectuar con una antelación máxima de tres meses previos al comienzo previsto de la actividad en España.

En el supuesto de autorizaciones de estancia por estudios (artículo 37.1. a) del Real Decreto 557/2011) la solicitud de la autorización podrá presentarse por el extranjero, personalmente, mediante representación o a través de los medios telemáticos habilitados para ello, en el modelo oficial, en la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que vaya a iniciarse la actividad siempre y cuando se halle regularmente en territorio español y presente su solicitud con una antelación mínima de un mes a la fecha de expiración de su situación.

Para poder presentar las solicitudes de visado será necesario que los solicitantes obtengan una cita para ello.

La petición de citas se realizará a través, única y exclusivamente, de la dirección emb.teheran.sc@maec.es mediante correo electrónico en el que se especifique el número de solicitantes y nombre completo de cada uno, el tipo exacto de visado que desean solicitar y la fecha de su conveniencia para fijar la cita.

Al correo electrónico solicitando cita se adjuntarán copias de las hojas de datos del pasaporte de cada solicitante y de las cartas de invitación, admisión, autorización de residencia o cualquier otro documento que acredite el motivo de la solicitud según corresponda.

Para estancias por estudios/actividades de investigación o formación hasta 90 días se habrá de solicitar el correspondiente visado de estancia uniforme Schengen, no el visado de estancia por estudios de más de 90 días.

Es muy importante que todos los formularios de solicitud estén correcta y completamente rellenos en caracteres latinos (no en idioma persa) y debidamente firmados.

Las solicitudes de los menores de 18 años han de ser firmadas y presentadas por sus padres.

En el caso de que se aprecie falta de documentación o conveniencia de documentación adicional con el fin de que queden acreditados todos los requisitos para la obtención del visado se hará un requerimiento para que se subsane la documentación faltante o adicional. Este requerimiento se hará bien en el momento de la solicitud, bien en un momento posterior durante la tramitación del expediente.

La documentación requerida deberá ser aportada en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la notificación del requerimiento. En el caso de que no se atienda el requerimiento se le podrá tener por desistido y el expediente archivado, previa resolución al efecto.

La documentación que se desee incorporar a los expedientes de visados (subsanciones, etc.) ha de ser presentada en la Embajada cualquier día hábil entre las 13.30 y las 14.30, bien personalmente, bien por cualquier persona adulta que porte su documento de identidad y adjunte copia de este documento a la documentación presentada. No se acepta la vía del correo electrónico o postal.

La documentación incluida en los expedientes de solicitud de visado ha de estar traducida al español mediante traducción oficial legalizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní o mediante traducción oficial con la Apostilla de La Haya

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/ConveniodelaHaya.pdf> o legalizada por vía diplomática si son traducciones de otros países. En el caso de traducciones hechas por traductores jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf> u otros traductores jurados oficiales de algún país de la Unión Europea no son necesarios ni Apostilla de La Haya ni legalización diplomática.

Durante la tramitación de la solicitud de visado el solicitante podrá ser citado para una entrevista personal en la Embajada. En este caso el solicitante puede acudir a la entrevista acompañado de un intérprete de español por él elegido.

El domicilio para notificaciones de todo tipo de resoluciones, requerimientos, citaciones, etc. es la propia Embajada de España en Teherán.

En el momento de presentar su solicitud el solicitante recibirá un resguardo en el que se instruye sobre la forma en que puede comprobar en internet cuándo su solicitud está resuelta.

Una vez que la solicitud está resuelta el solicitante (o su padre y su madre si se trata de un menor) ha de venir a la Embajada personalmente cualquier día laborable entre las 13.30 y las 14.30 para recibir su visado o ser notificado de cualquier otra resolución.

En el caso de desacuerdo con una resolución denegatoria de visado contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano (la Embajada de España en Teherán) en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución, o ser impugnado directamente el acto ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los recursos han de estar redactados en español y se les puede adjuntar cualquier documentación que se estime conveniente.

Los recursos de reposición han de ser firmados por el solicitante (o sus padres si se trata de un menor) y ser traídos a nuestra oficina con la firma original por el propio solicitante u otra persona adulta con documento de identidad y adjuntando una copia de este documento cualquier día laborable de 13.30 a 14.30.

Junto con el recurso se traerá una fotocopia que será sellada y devuelta a los efectos de acuse de recibo.

Los solicitantes pueden venir a la Embajada personalmente y/o en representación de sus hijos menores de 18 años cualquier día laborable entre las 13.30 y las 14.30 para ser notificados de la resolución a sus recursos.

Tengan en cuenta que la normativa vigente (Ley de Protección de Datos), nos impide dar información acerca de solicitudes de visados a terceras personas. En consecuencia esta Embajada no proporcionará información acerca de la tramitación de solicitudes de visado por correo electrónico, al no estar identificado el remitente, y por ser la Embajada el domicilio para la notificación de todo tipo de resoluciones, requerimientos, citaciones, etc.

Si la estancia tuviera una duración superior a seis meses, el extranjero deberá solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un mes desde la entrada efectiva en España.

VISADOS DE ESTANCIA POR ESTUDIOS/ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN O FORMACIÓN DE MÁS DE 90 DÍAS

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (EN ESTE MISMO ORDEN)

1.- Formulario de solicitud de visado nacional debidamente cumplimentado y firmado, que se puede obtener en el siguiente enlace:

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/Solicitud%20de%20visado%20nacional%20-%20Español.pdf>

El impreso de solicitud llevará pegada una fotografía tamaño pasaporte en color, reciente, de buena calidad y con fondo blanco.

2.- Copia del correo electrónico que ha recibido concediéndole la cita para presentar su solicitud.

3.- Documentación acreditativa de que el solicitante está admitido para la realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España, en un programa de tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios, o bien de que ha sido admitido en un centro reconocido oficialmente en España para la realización de actividades de investigación o formación. En el caso de actividades de investigación, dicho centro será una Universidad, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otra institución pública o privada de I+D.

4.- Para estancias superiores a 6 meses: Certificado médico, firmado por un doctor en medicina y expedido en los últimos tres meses, que especifique que “el solicitante no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005”.

5.- Traducción oficial al español del certificado médico legalizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

6.- Para solicitantes mayores de edad penal (mayores de 18 años) para estancias superiores a seis meses: certificado de antecedentes penales de Irán expedido en los últimos tres meses.

7.- Traducción oficial al español del certificado de antecedentes penales de Irán legalizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

8.- Para solicitantes mayores de edad penal para estancias superiores a seis meses: certificados de antecedentes penales de los países distintos de Irán y España en los que haya residido durante los últimos cinco años. Los certificados tendrán una antigüedad máxima de tres meses, o en todo caso, ser expedidos en fecha posterior a la finalización de la residencia en ese país. Estos certificados han de estar apostillados en el caso de que el país en cuestión sea parte del Convenio de La Haya <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/ConveniodelaHaya.pdf> o bien legalizados por vía diplomática.

9.- Traducción oficial al español de los certificados de antecedentes penales anteriores. Estas traducciones tendrán que estar apostilladas <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/ConveniodelaHaya.pdf> o legalizadas según el país de procedencia de la traducción. En el caso de traducciones hechas por traductores jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf> u otros traductores jurados oficiales de algún país de la Unión Europea no son necesarios ni Apostilla de La Haya ni legalización diplomática.

10.- Acreditación, mediante las condiciones generales y particulares y acreditación del pago, de contar con un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España. El seguro debe abarcar todos los riesgos cubiertos por el Sistema Nacional de Salud y mantenerse durante toda la

vigencia de la autorización, no siendo admisibles modalidades de copago ni períodos de carencia. También debe quedar cubierta la contingencia de repatriación por enfermedad o fallecimiento. Este seguro de Asistencia Sanitaria en la modalidad de cuadro médico debe estar al corriente del pago de la prima por el tiempo de estancia prevista en España.

11.- Documentación acreditativa de tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar los gastos de estancia y regreso a Irán.

Los medios económicos para su sostenimiento serán de al menos una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia.

Téngase en cuenta que para estimar el valor en euros de los medios económicos en riales iraníes no se considerará el tipo de cambio oficial, pues éste no rige para ninguna operación económica, sino el tipo de cambio de mercado.

La documentación acreditativa de los medios económicos ha de incluir al menos y en todo caso carta del banco donde el solicitante tenga cuenta corriente y extracto de esta cuenta correspondiente al menos a los últimos seis meses. Estos documentos bancarios no necesitarán traducción al español si están expedidos originalmente en inglés.

En el caso de que sean los padres quienes sufraguen los gastos se aportará también su documentación económica según lo descrito anteriormente.

12.- Certificados de trabajo del solicitante y de sus padres en su caso, con traducciones oficiales al español legalizadas.

13.- En el caso de menores de 18 años se aportará acta de manifestaciones de ambos padres ante Notario Público iraní autorizando al solicitante para el desplazamiento a España a efectos de realizar la actividad de que se trate, con constancia del centro, organización, entidad y organismo responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto, con traducción oficial al español legalizada.

14.- La documentación acreditativa de su formación académica previa que estime oportuno (fotocopias con sus correspondientes traducciones al español legalizadas o apostilladas según corresponda).

15.- Traducción oficial al español del documento nacional de identidad iraní (Shenasnameh).

16.- Pasaporte con una vigencia mínima del período para el que se solicita la estancia y fotocopia de todas las hojas con información. Pasaportes anteriores más fotocopias.

17.- Copia de los pasaportes o documentos de identidad de los padres del solicitante en el caso de ser éste menor de edad o ser ellos quienes sufraguen los gastos.

18.- Cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuno.

En el momento de la presentación de la solicitud se abonará, en efectivo y en euros, la tasa por tramitación del visado: 60 euros por solicitud independientemente de la edad del solicitante.

ویزاهای مطالعاتی / تحقیقاتی و یا فعالیتهای آموزشی بیشتر از 90 روز

اطلاعات عمومی

مجوزهای اقامت برای تحصیل، دانشجویی، آموزشی غیر کاری یا خدمات داوطلبانه عمدتاً در مواد 37 و بعدی فرمان سلطنتی 2011/557، 20 آوریل تنظیم شده است که بر اساس آیین نامه قانون ارگانیک 2000/4، در مورد حقوق و آزادی های بیگانگان در اسپانیا و ادغام اجتماعی آنها تصویب شده است.

درخواست ها باید به صورت حضوری یا از طریق نماینده، در مقر دیپلماتیک اسپانیا یا دفتر کنسولی منطقه محل سکونت ارائه شود. بنابراین متقاضیان مقیم در کشوری غیر از ایران نمی توانند درخواست های خود را در سفارت اسپانیا در تهران ارائه دهند.

درخواست های این نوع ویزا حداکثر تا سه ماه قبل از شروع فعالیت برنامه ریزی شده در اسپانیا انجام می شود.

در مورد مجوزهای اقامت برای تحصیل (ماده 37.1 الف) مصوبه سلطنتی 2011/557 درخواست مجوز می تواند در خارج از کشور، شخصاً از طریق نماینده یا به صورت ابزار تلماتیک فعال شده برای این منظور، در فرم رسمی، در نمایندگی دولت شهرستانی که قرار است فعالیت در آنجا انجام شود، همیشه در صورتی که به طور قانونی در خاک اسپانیا باشد و درخواست خود را حداقل یک ماه قبل از تاریخ انقضا وضعیت ارائه نمایند.

برای ارسال درخواست ویزا، لازم است متقاضیان در خواست وقت نمایند.

درخواست وقت فقط از طریق آدرس emb.teheran.sc@maec.es از طریق ایمیل انجام می شود که در آن تعداد متقاضیان و نام کامل هر یک از آنها، نوع دقیق ویزای مورد درخواست و تاریخ مناسب خود برای وقت ذکر شده، انجام میشود.

کپی صفحه اطلاعات گذرنامه هر متقاضی و نامه های دعوت، پذیرش، اجازه اقامت یا هر مدرک دیگری که دلیل درخواست را اثبات کند، به ایمیل مورد نظر برای درخواست وقت، ضمیمه می شود.

برای اقامت مطالعاتی / تحقیقاتی یا فعالیتهای آموزشی حداکثر تا 90 روز، باید ویزای شینگن مربوطه درخواست شود، نه ویزای اقامت مطالعاتی بیش از 90 روز.

بسیار مهم است که تمام فرم های درخواست به طور صحیح و کامل با حروف لاتین (نه به زبان فارسی) پر شده و امضا شده باشد.

درخواست های افراد زیر 18 سال باید توسط والدین آنها امضا و ارائه شود.

در صورت مشاهده کمبود اسناد و مدارک و یا نیاز به ارائه مدارک اضافی به منظور اینکه کلیه الزامات لازم برای اخذ ویزا حاصل شود، اصلاح این موارد درخواست خواهد شد. این مورد در زمان ارائه درخواست ویزا یا در زمان بعدی در طی پردازش پرونده انجام خواهد شد.

مستندات مورد نیاز باید ظرف ده روز از روز بعد از ابلاغ درخواست ارائه شوند. در صورت عدم پاسخگویی به درخواست ممکن است به عنوان عدم پیگیری تلقی و پرونده با تصمیم گیری قبلی، آرشیو شود.

مدارک (یا اصلاحات و موارد دیگر) که می خواهید در پرونده ویزا درج باید در روزهای کاری بین ساعت 1:30 تا 2:30 بعد از ظهر به شخصه یا هر فرد بالغی که دارای مدرک شناسایی باشد در سفارت ارائه شود. ارسال مدارک از طریق ایمیل یا پست پذیرفته نمی شود.

مدارک موجود در پرونده های درخواست ویزا باید با ترجمه رسمی که توسط وزارت امور خارجه ایران تأیید شده یا با ترجمه رسمی با Apostille of the Hague به اسپانیایی ترجمه شوند

<http://www.exteriores.gob.es/Portal>

[/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Document/ConveniodelaHaya.pdf](http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Document/ConveniodelaHaya.pdf)

یا در صورت ترجمه از کشورهای دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک تأیید شده باشند. در مورد ترجمه هایی که توسط مترجمان قسم خورده تأیید شده توسط وزارت امور خارجه اسپانیا

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Document/Listado20actualizado.pdf>

یا سایر مترجمان رسمی از هر کشور اتحادیه اروپا لازم نیست که آپوستیل لاهه یا تأییدیه سفارت داشته باشند باشد.

در طی پردازش درخواست ویزا، متقاضی ممکن است برای مصاحبه شخصی در سفارت احضار شود. در این حالت، متقاضی می تواند در مصاحبه همراه با یک مترجم اسپانیایی که توسط وی انتخاب شده است شرکت کند.

آدرس برای اعلام ابلاغیه ها، الزامات ، استنادها و غیره سفارت اسپانیا در تهران است.

در زمان ارائه درخواست، متقاضی یک رسید دریافت می کند که در آن نحوه چک کردن نتیجه درخواست از طریق اینترنت را مشخص میکند.

زمانیکه درخواست دارای جواب است، متقاضی (یا پدر و مادر اگر زیر 18 سال است) باید در روزهای کاری بین ساعت 13:30 تا 14:30 به صورت حضوری به سفارت مراجعه کند تا ویزا یا هرگونه نتیجه دیگری را دریافت نماید. در صورت عدم موافقت با درخواست، می توان درخواست تجدید نظر در همین مرجع (سفارت اسپانیا در تهران) ظرف مدت یک ماه از روز بعد از تاریخ ابلاغ ارائه، یا در حوزه قضایی اختلاف-اداری ، مطابق با مفاد ماده 123 قانون 2015/39 اول اکتبر، در باره رژیم حقوقی ادارات عمومی و آیین دادرسی مشترک اداری به طور مستقیم مورد اعتراض قرار گیرد.

اعتراض باید به زبان اسپانیایی نوشته شده و هرگونه مستنداتی که مناسب تلقی شود می تواند به آنها پیوست شود.

اعتراضیه باید توسط متقاضی (یا والدینش در صورت زیر 18 سال بودن) امضا شده و با امضای خود شخص، توسط خود متقاضی، یا بزرگسال دیگر با داشتن مدرک شناسایی و یک کپی از این مدرک، در روزهای کاری بین ساعت 13:30 تا 14:30 به دفتر ما ارائه شود.

یک کپی از درخواست تجدید نظرهمراه با تجدید نظر جهت مهر رسید شدن و عودت، ارائه شود.

متقاضیان می توانند در روزهای کاری بین ساعت 1:30 الی 2:30 بعد از ظهر به شخصه و یا از طرف فرزندان زیر 18 سال جهت دریافت ابلاغیه جواب تجدید نظر به سفارت مراجعه نمایند. به خاطر داشته باشید که آیین نامه های فعلی (قانون حمایت از داده ها) مانع از ارائه اطلاعات در مورد درخواست ویزا به اشخاص ثالث می شود. در نتیجه ، این سفارت اطلاعاتی در مورد درخواست های ویزا از طریق ایمیل ارائه نمی دهد ، زیرا فرستنده مشخص نیست و اینکه سفارت، آدرس اطلاع رسانی در مورد انواع ابلاغیه ها ، الزامات ، استناد و غیره است. اگر مدت اقامت بیش از شش ماه باشد، تبعه بیگانه می بایست ظرف یک ماه از ورود به اسپانیا ، برای کارت شناسایی اتباع بیگانه مربوطه اقدام نماید.

1- فرم درخواست ویزای ملی به طور صحیح تکمیل و امضا شده که می توانید در لینک زیر دریافت کنید:

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Document/Solicitudde20Español.pdf%20-%20nacional%20visado%20de>

به فرم درخواست عکس گذرنامه ای جدید ، با کیفیت خوب و زمینه سفید چسبانده شود .

2- کپی ایمیلی که برای وقت دریافت کرده اید.

3- مدارکی مبنی بر اثبات اینکه متقاضی جهت تحصیل در یک مرکز آموزش مجاز در اسپانیا در یک برنامه تمام وقت که منجر به اخذ عنوان و یا مدرک تحصیلی میشود پذیرش شده یا که برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی یا آموزشی در یک مرکز رسمی شناخته شده در اسپانیا پذیرفته شده است. در مورد فعالیت های تحقیقاتی ، مرکز مذکور یک دانشگاه ، مرکز شورای عالی تحقیقات علمی و یک موسسه تحقیق و توسعه عمومی یا خصوصی تحقیق و توسعه خواهد بود.

4- برای اقامت بیش از 6 ماه: گواهی پزشکی ، که توسط پزشک امضا شده و در سه ماه گذشته صادر شده است ، تصریح می کند: "متقاضی از هیچ یک از بیماری هایی که عواقب جدی در سلامت عمومی بر اساس مقررات بین النلی بهداشتی 2005 دارد، رنج نمی برد.

5- ترجمه رسمی گواهی پزشکی به اسپانیایی که توسط وزارت امور خارجه ایران تأیید شده است.

6- برای متقاضیان بالای 18 سال برای اقامت بیش از شش ماه، گواهی عدم سو پیشینه ایران صادر شده در سه ماه گذشته.

7- ترجمه رسمی اسپانیایی گواهی عدم سو پیشینه ایران که توسط وزارت امور خارجه ایران تایید شده است.

8- برای متقاضیان بالای 18 سال برای مدت اقامت بیشتر از شش ماه، گواهی عدم سو پیشینه از کشورهایی غیر از ایران و اسپانیا که در طی 5 سال گذشته اقامت داشته اند. گواهی حداکثر در سه ماه گذشته یا در هر صورت پس از پایان اقامت در آن کشور صادر شده باشد. این گواهی ها باید در صورتی که کشور مورد نظر بخشی از کنوانسیون لاهه باشد اپوستیل شده

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Document/Convenio delaHaya.pdf>

یا از طریق مجاری دیپلماتیک تأیید شده باشند.

9- ترجمه رسمی گواهی های عدم سو پیشینه به اسپانیایی. این ترجمه ها باید اپوستیل شده

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Document/Convenio delaHaya.pdf>

و یا تأیید شده با توجه به کشور مبدا ترجمه باشد.

در مورد ترجمه هایی که توسط مترجمان قسم خورده منصوب شده توسط وزارت امور خارجه اسپانیا <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Document/Listado20actualizado.pdf> یا سایر مترجمان رسمی از هر کشور اتحادیه اروپا لازم نیست که اپوستیل لاهه یا تأیید دیپلماتیک باشد.

10- ارائه مدرک ، شرایط عمومی و خاص و اثبات پرداخت بیمه درمانی خصوصی که با يك شرکت بیمه مجاز به فعالیت در اسپانیا ترتیب داده شده است.

این بیمه باید کلیه موارد تحت پوشش سیستم ملی بهداشت را پوشش دهد و در طول مدت اقامت معتبر باشد، روشهای پرداخت کمکی و یا زمان عدم پوشش درمانی مورد قبول نمیباشد. همچنین باید انتقال به کشور در صورت بیماری و یا فوت را پوشش دهد.

این بیمه(بر اساس CUADRO MEDICO) باید پرداخت آن برای مدت اقامت در اسپانیا و به روز باشد.

- 11- اسناد و مدارک مالی متضمن داشتن استطاعت مالی لازم برای تأمین هزینه های اقامت و بازگشت به ایران. حداقل هزینه مالی برای حمایت از آن حداقل مبلغی خواهد بود که 100٪ IPREM (شاخص عمومی درآمد) ماهانه را نشان می دهد ، مگر اینکه اثبات شود که هزینه محل اسکان تا پایان مدت اقامت پرداخت شده است. در نظر داشته باشید که برای برآورد ارز ، نرخ رسمی ارز در نظر گرفته نمی شود ، زیرا این موضوع برای هیچ گونه عملیات اقتصادی صدق نمی کند، بلکه نرخ ارز آزاد محاسبه میشود.
- مستندات مالی باید حداقل و در هر صورت نامه ای از بانک که متقاضی دارای حساب میباشد و گردش مالی از این حساب که حداقل مربوط به شش ماه گذشته باشد را در بر بگیرد. ترجمه اسپانیایی این مدرک در صورتیکه به انگلیسی باشد نیاز نیست. در صورتی که والدین هزینه ها راپردازند ، مستندات مالی آنها نیز مطابق توضیحات فوق تهیه می شود.
- 12- گواهی کار متقاضی (و والدین آنها در صورت لزوم) با ترجمه های رسمی به اسپانیایی که تایید شده اند.
- 13- در مورد افراد زیر سن 18 سال ، اظهاریه محضری ایرانی هردو والدین در مورد اجازه به متقاضی سفر به اسپانیا به منظور انجام فعالیت مورد نظر ، همراه ذکر مرکز ، سازمان ، نهاد و همچنین مؤسسه مسئول فعالیت و دوره اقامت پیش بینی شده با ترجمه رسمی تایید شده به اسپانیایی.
- 14- مدارک دوره های تحصیلی گذشته متقاضی که مناسب می داند (کپی با ترجمه های تایید شده مربوط به آنها به اسپانیایی یا اپوستیل شده بسته به نوع)
- 15- ترجمه رسمی به اسپانیایی شناسنامه.
- 16- گذرنامه با حداقل اعتبار دوره ای که برای آن اقامت درخواست شده است و یک کپی از کلیه برگه های دارای اطلاعات. گذرنامه های قبلی به علاوه کپی.
- 17- کپی گذرنامه یا مدارک هویتی والدین متقاضی در صورت صغیر بودن یا اینکه آنها هستند که هزینه را تقبل می کنند.
- 18- هرگونه مدرک دیگری که متقاضی مناسب بداند.
- در زمان ارائه درخواست ، هزینه پردازش ویزا به صورت نقدی و به یورو پرداخت می شود: 60 یورو هر درخواست بدون در نظر گرفتن سن متقاضی